



5290CH06

اکانی - VI

میڈیا کے لیے لکھنا - II



باب : 1 برقی ذرائع ابلاغ (الیکٹرائیک میڈیا) سے متعلق تحریروں کا مختصر تعارف

1.1 برقی ذرائع ابلاغ

1.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ

1.3 ریڈیو

1.3.1 ایف ایم ریڈیو ٹیلی کاسٹ

1.3.2 ریڈیو پروگرام اور اس کی اہم اصناف

1.4 ریڈیو کے لیے لکھنا

1.4.1 ریڈیو فیچر

1.4.2 ڈاکومینٹری

1.4.3 ریڈیو ڈراما

1.4.4 ریڈیو ناٹ

1.4.5 مباحثہ، مذاکرہ

1.4.6 ریڈیو کی منظوم اصناف

1.5 ٹلی ویژن

1.5.1 نیوز رپورٹنگ

1.5.2 اسکرپٹ نگاری

1.6 سینما / فلم

1.6.1 قلمی تبصرہ

1.7 انٹرویو

1.8 اشتہار

1.8.1 ریڈیائی اشتہار

1.8.2 ٹی وی اشتہار

1.9 ریڈیو اور ٹی وی اسٹنکر مگ

باب : 2 میڈیا کے لیے لکھنا - II

2.1 اسکرپٹ (ریڈیو، ٹیلی ویژن)

میڈیا کے لیے خبریں تیار کرنا 2.1.1

”خبر“ کیا ہے؟ 2.1.2

ریڈیونیوز بیٹھن 2.1.3

ٹی وی نیوز بیٹھن 2.1.4

ٹی وی کے لیے خبروں کا انتخاب 2.1.5

ٹی وی نیوز ایڈ پینگ 2.1.6

ٹی وی خبروں کی پیش کش 2.1.7

2.2 ٹیلی ویژن دستاویزی فلم


2.3 ڈاکیوڈrama

2.4 نیومیڈیا



تلیقی جوہر کے پہلے حصے میں میڈیا کی اقسام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور نیومیڈیا کا تعارف پیش کیا گیا تھا اور پرنٹ میڈیا کے لیے لکھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ یہاں اس اکائی کے پہلے باب میں بر قی میڈیا کے لیے لکھی جانے والی تحریریوں اور نیومیڈیا سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہے۔

بر قی ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹی وی، سینما وغیرہ کے آغاز و ارتقا اور تاریخی پس منظر کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس یونٹ میں ریڈیو اور ٹی وی اصناف اور انھیں لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نیوزبلیٹن کی تیاری اور پیش کش اور ڈاکیوڈ رائے کی اہمیت بھی اس یونٹ میں شامل ہے۔



برقی ذرائع ابلاغ (الیکٹرائک میڈیا) سے متعلق تحریروں کا مختصر تعارف

ذرائع ابلاغ و ترسیل، افکار و خیالات کو ایک فردی مقام سے دوسرے افراد یا مقامات تک پہنچانے کے وسائل ہیں۔ ان وسائل کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ مسلسل انسانی ایجادات کے ساتھ ساتھ اپنی صورت اور اپنے طریقہ کا تبدیل کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرائع ابلاغ عہدہ بہ عہد ترقی کے مراحل طے کرتے جاری ہے ہیں۔

پرنٹ میڈیا کی مقبولیت کے بعد ریڈیو، سینما اور ٹیلی ویژن جیسے وسائل سامنے آئے۔ ان وسیلوں کے عام ہونے سے الیکٹرائک میڈیا کی ایک اصطلاح رائج ہوئی۔ الیکٹرائک میڈیا کے لیے جو تحریریں لکھی جاتی ہیں ان کے تقاضے پرنٹ میڈیا کی تحریروں سے مختلف ہیں۔


ان تقاضوں کا تعلق پیش کش کے مقاصد، ذرائع اور طریقہ کار سے ہوتا ہے مثلاً اخبار کے لیے لکھتے وقت پڑھنے کے تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ریڈیو کے لیے لکھتے وقت سمعی اصولوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے وقت سمجھی اور بصری دونوں ضرورتوں پر کیاں توجہ دی جاتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں تکنیکی تقاضوں کے علاوہ لکھنے کے مقاصد اور سامعین، قارئین اور ناظرین کے ذہن اور ان کی تہذیب و معاشرت کے لحاظ سے بھی مضامین، موضوعات، اسلوب، طریقہ کار اور زبان کے معیار میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔

1.1 برقی ذرائع ابلاغ Electronic Media

برقی یا الیکٹرائک میڈیا کے لیے لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تحریر کیوں اور کس کے لیے لکھی جائی ہے۔ الیکٹرائک میڈیا میں نشر ہونے والے پروگرام کا وقت متعین ہوتا ہے۔ لکھنے والا وقت کے دورانیے کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہے حضوری ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے وہ طے شدہ مدت میں ختم ہو، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ زبان آسان اور جملے مختصر اور واضح ہوں۔ کسی تحریر میں جامیعت تب ہی آتی ہے جب لکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اسے کیا نہیں لکھنا ہے اور جو لکھنا ہے اسے کم سے کم الفاظ میں کس طرح ترسیل و تفہیم کے لائق بنانا ہے۔ ترسیل و ابلاغ میں کیوں، کیا، کیسے، کب، کہاں اور کس کے لیے پیش کرنا ہے، کی اہمیت مسلم ہے لیکن وقت میں پیش کرنا ہے، کو ان سب پروفیقیت حاصل ہے۔ کیوں کہ برقی ترسیل و ابلاغ کے سبھی ذرائع پیش کش کی مدت کے پابند ہوتے ہیں۔ آئیے اس باب کے آغاز میں الکٹرائک میڈیا کی تاریخ کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میڈیا کے لیے لکھنے والی تحریروں پر توجہ کی جائے گی۔

6.1 سرگرمی

برقی ذرائع ابلاغ (الیکٹرائک میڈیا) کے بدنر تج آغاز و ارتقا کو ایک چارٹ کی شکل میں پیش کیجیے۔



1.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ

برقی ذرائع ابلاغ کا آغاز 1852ء میں ٹیلی گراف کی ایجاد سے ہوا۔ ٹیلی گراف میں تارا اور بھلی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ صوتی اشارے بھیج جاتے تھے۔ ٹیلی گراف کے



ذریعہ پہلا پیغام 24 مئی 1844 کو امریکہ میں واشنگٹن سے بالیٰ مور، بھیجا گیا جس کا جواب بھی موصول ہوا۔ تقریباً بارہ برس بعد پیغام رسانی کے اس وسیلے کو وسعت ملی اور امریکہ سے یورپ کے مابین کیبل کی مدد سے پیغامات بھیجے جانے لگے۔ ٹیلی گرام کے اشارتی پیغام کو دور تک بھیجنے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسانی آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجنے کی کوشش کی جانے لگی اور 1876 میں گراہم ٹیل نے ٹیلی فون کی ایجاد میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سائنس دانوں نے تلاش جستجو کی اگلی منزل طے کرتے ہوئے بر قی ابلاغ کے لیے استعمال ہونے والے تارکوبے تار کر کے پیغامات کو ہوا میں موجود بر قی لہروں کے ذریعے بھیجنہ شروع کیا۔ اسی کو وائز لیس، کہا جاتا ہے۔ اسے ہنری ہرٹ (Heinrich Hertz) نے ایجاد کیا اور گولیو مارکونی (Guglielmo Marconi) نے اس کی توسعہ کر کے اسے کاروباری استعمال کے قابل بنایا۔ وائز لیس، کی ایجاد ایک ایسا اہم اور بنیادی نوعیت کا کارنامہ تھا جس نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سیمیلانس کی ایجادات کو آسان بنادیا۔

1.3 ریڈیو

ہندوستان میں ریڈیو نشریات کا آغاز 1921 میں ٹانگس آف انڈیا اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف محکمہ کے اشتراک سے نشر کیے جانے والے ایک موسیقی کے پروگرام سے ہوا۔ 1930 میں حکومت نے انڈین براؤ کاسٹنگ سروس، شروع کی۔ 1936 میں اسے آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا جسے 1957 سے آکاش وانی کہا جانے لگا۔ آل انڈیا ریڈیو کے آغاز کے ساتھ ہی ریڈیو کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ ابلاغ کا ایک ایسا آسان وسیلہ ثابت ہوا جس نے کچھ ہی عرصے میں گھر گھر میں رسانی حاصل کر لی۔ ریڈیو کے لیے خصوصی پروگرام تیار کیے جانے لگے۔ جزوں کی نشر و اشاعت کے لیے بھی یہ ایک بہترین

جدید سماج کی تشكیل میں کمپیوٹر اور نشریات کی تکنیک کا جزو بردست اثر ہے اس سے اس طرح کے تعلیم یافتہ عموم کی ضرورت سامنے آتی ہے جو اس تکنیک کو سماج اور بني نواع انسان کی بہتری کے لیے موثر طور پر استعمال کر سکیں۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ علم کے اس دائرة اثر کو اسکولی درسیات میں جگہ ملنی چاہیے۔ کمپیوٹر تکنیک کے روز افزون اثرات کے پیش نظر ہمیں اس بنیادی چیز سے سمجھی گی سے لینا ہو گا اور ہارڈ ویرے، سافٹ ویرے اور رابطے کی تکنیک کے معاملے میں معروضی متبادل تلاش کرنے ہوں گے جو ہندوستان کے شہری اور دینی اسکولوں کے لیے مناسب اور فائدہ مند ہوں۔ ہمیں کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹکنالوژی میں ایک جامع اور مر بوط نصاب کو ترقی دینے کے مسئلے کو بھی حل کرنا ہو گا جو تعلیمی تربیت کا، منتظمین اور عوام کے درمیان تبادلہ خیال کے لیے بنیاد فراہم کر سکے۔ درسیات کو کار آمد بنانے کے لیے خصوصی موضوعات کو بھی جو میں مضامین انکار ہیں، شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

قوی درسیات کا خاکہ - 2005

ویسیلہ ثابت ہوا۔ ریڈیو پر ہندی، اردو اور انگریزی زبانوں میں خبریں نشر کی جانے لگیں۔ عوام کو یہ ویسیلہ اس قدر پسند آیا کہ جس وقت ریڈیو سے خبریں نشر ہوتیں، لوگ ریڈیو کے ارد گرد جمع ہو کر انتظار کیا کرتے۔ اس کی مقبولیت اور افادیت کے پیش نظر ریڈیو کا دائرہ روز بروز بڑھتا گیا۔ بہت جلد ریڈیو کے کئی علاقائی چینیں شروع ہو گئے۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر بڑی زبان کے علاقے کے لحاظ سے کئی ریڈیو اسٹیشن کھلتے چلے گئے۔ ادھر آں انڈیا ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام اور چینیوں کی تعداد میں کہی اضافہ کا سلسلہ جاری رہا۔ بخوبیں کے علاوہ فلمی موسیقی کے پروگراموں نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ ملک بھر سے لوگ اپنی فرمائشیں لکھ کر آں انڈیا ریڈیو پر بھیجتے اور ان کی فرمائش پر فلمی گیت، غزلیں اور نظمیں وغیرہ نشر کی جاتیں۔ فرمائشیں کے کئی پروگرام جیسے



‘فوجی بھائیوں کے فرمائشی گیت’ بے حد مقبول ہوئے۔ اسی طرح ریڈیو ڈرامے کی نشر و اشتاعت نے بھی عوام کے دل کو مودہ لیا۔ ڈراموں کے مختلف پروگرام جیسے ہوائی، آج بھی اس نسل کے ذہن میں تازہ ہیں جس نے اپنی نوجوانی میں انھیں ریڈیو کے ویسے سے سنا تھا۔ ریڈیو انسٹیٹیوٹ نے بھی عوام کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ بعض پروگرام تو لوگ صرف اس وجہ سے سنتے تھے کہ انھیں پروگرام کے انا و نسر کی آواز اور انداز بے حد پسند تھا۔ ریڈیو پر نشر ہونے والے اشتہارات بھی تماعت سے گزر کر لوگوں کے ذہن و دل کا حصہ بنے اور لوگ اکثر اشتہارات بھی گنگنا نے لگے۔


آپ کو معلوم ہے کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے پروگرام ریڈیو سیٹ پر سنے جاتے ہیں۔ ریڈیو سیٹ ان ریڈییائی لہروں کو کچ (Catch) کرتا ہے جو ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی جاتی ہیں۔ ان ریڈییائی لہروں کا ایک مخصوص دائرہ ہوتا ہے جسے ان لہروں کی حد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے آپ یوں سمجھیجیے کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے پروگرام اس اسٹیشن کے ارد گرد واقع 100 کلومیٹر کے دائے میں سنے جاسکتے



ہیں اور کسی اسٹیشن کے پروگرام اس اسٹیشن سے 5 ہزار کلو میٹر کی
دوری پر بھی سے جا سکتے ہیں۔ اس کا انحصار ریڈیو اسٹیشن کی تکمیلی
صلاحیت یاریڈیائی لہروں کی Wavelength پر ہوتا ہے جس
کی پیاس کے اعتبار میٹر میں کی جاتی ہے۔ ان لہروں کی پیاس کے اعتبار
سے میڈیم ویو (MW) بینڈ اور شارت ویو (SW) بینڈ وجود میں
آئے۔ ساتھ ہی ان کی فریکوئنسی کے پیانے میگا ہر ہزار بھی مقرر
ہیں۔ چنانچہ ریڈیو اسٹیشنوں سے آج بھی اس نوبت کے
اعلان کیے جاتے ہیں کہ ”یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔
آپ ہمارے پروگرام میڈیم ویو اور شارت ویو پر سُن سکتے ہیں۔
ہمارے بیٹریز میڈیم ویو 427.3 میٹر یا 702 کلو ہر ہزار،
میڈیم ویو 280.1 4860 میٹر یعنی 31.27 کلو ہر ہزار، شارت ویو
میڈیم ویو 9595 کلو ہر ہزار اور 100.8 میگا ہر ہزار اور 1468.504 میگا ہر ہزار
پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔“ آزادی کے فوراً بعد ہندستان میں کل چھے
ریڈیو اسٹیشن، بارہ میڈیم ویو (MW) اور چھے شارت ویو (SW) ٹرانسمیٹر تھے۔
فی الحال ہندوستان بھر میں 210 سے زائد رادیو کاسنگ سینٹر قائم ہیں جو ملک کی تقریباً
کل آبادی کو اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں۔ 1997 میں ایک خود مختار نشریاتی ادارہ
کی تکمیلی عمل میں آئی جسے ’پرسار بھارتی‘ کے نام سے مقبولیت ملی۔

1.3.1 ایف ایم ریڈیو ٹیلی کاست

ہندوستان میں آکاش وانی سے تقریباً نصف درجہ شہروں میں ایف ایم (Frequency Modulated) ریڈیو نشریات کی ابتداء 1993 میں ہوئی۔ ایف ایم ریڈیو چھوٹی دوری عموماً 30 سے 40 کلو میٹر تک کا انتشار ہے اور اس کی صوتی کوالٹی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس نشریات پر خراب موسم کا اثر بھی کم پڑتا ہے۔ ایف ایم نشریات موسیقی، ملاقات، امن و یوپی میں لائیو ٹیلی فون ان پروگرام ہیں۔ 1999 میں حکومت نے 40 شہروں میں 150 ایف ایم مرکز کو منظوری دے



دی۔ ساتھ ہی حکومت نے خود کا تنظیموں، تعلیمی اداروں اور رضا کار تنظیموں کو بھی کیوں نی ریڈ یو اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح ہندوستان میں ایف ایم کی توسعہ کے لامحدود مکانات ہیں۔

1.3.2 ریڈ یو پر گرام اور اس کی اصناف

ریڈ یو کے نشریاتی پروگراموں کی زمرہ بندی موسیقی، گفتگو اور خبر کی صورت میں کی جاتی ہے۔ موسیقی کے تحت ساز کی موسیقی (Instrumental Music) اور آواز کی موسیقی (Vocal Music) نشر کی جاتی ہے۔ ان میں کلاسیک، نیم کلاسیک، ہلکی چھلکی یا مقبول موسیقی، لوک موسیقی، ساز نگینہ، فلمی موسیقی اور مغربی موسیقی کا شمار ہوتا ہے۔ گفتگو کے پروگرام میں ریڈ یو تاک (Radio Talk)، کلام شاعر، شعری نشست، ادبی نشست، مباحثہ، انش روایہ، آنکھوں دیکھا حال یا رواں تبصرہ، ریڈ یو رپورٹ، ریڈ یو فیچر، یہیں اور ریڈ یا می ڈرائی میں شامل ہیں۔ اسی طرح خبروں کے پروگرام میں خبروں کے علاوہ حالات حاضرہ کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔

1.4 ریڈ یو کے لیے لکھنا

ریڈ یو کی دنیا ساز و آواز سے آباد ہوتی ہے۔ اس لیے ریڈ یا می اصناف تخلیق کرتے وقت زبان کی صوتی خوبیوں، الفاظ کے مزاج، زبان کے فطری استعمال کے ہنر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ریڈ یا می اصناف میں تحریری زبان کے بجائے روزمرہ اور بول چال کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ریڈ یا می تقریروں کو Speech Talk کہا جاتا ہے۔ اردو میں Talk سے مراد تقریر، بات چیت، یا گفتگو ہے۔ ریڈ یو میں Spoken Words کے تحت ریڈ یو تقریر، انش روایہ، مذاکرہ، مباحثہ، تبصرہ، شعری نشست اور حالات حاضرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان سبھی اصناف کو تخلیق یا پیش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو سنتے وقت سامعین پر یہ نتا ثرا قائم ہو کہ وہ جو کچھ سن رہے ہیں وہ بے تکلف گفتگو یا بات چیت کا حصہ ہے۔ گویا جب ریڈ یو کے لیے کچھ لکھا جائے تو معینہ وقت کے لحاظ سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد اہمیت کے لحاظ سے ان نکات کو ترتیب دینا چاہیے۔ واقعات و نکات کو ترتیب دیتے وقت عام لوگوں کی دلچسپی کے علاوہ متعلقہ سامعین کی دلچسپی، ہنی بلوغت، تعلیمی لیاقت اور پیشے



کے اعتبار سے زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر عوامی ذرائع ابلاغ کے لیے کمی جانے والی تحریر کا مقصداً پنی زبان دانی سے سامعین کو متاثر کرنا نہیں ہوتا بلکہ اطلاعات و معلومات کی ترسیل کو اس میں اہم مانا جاتا ہے۔ ریڈ یو پر الگ الگ نوعیت کے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ پروگراموں کی نوعیت کے لحاظ سے انھیں ریڈ یا ای اصناف کہا جاتا ہے۔ بیہاں بعض اہم اور مقبول ریڈ یا ای اصناف کی تفصیل دی جا رہی ہے۔

1.4.1 ریڈ یو فیچر

کسی موضوع پر مشتمل دستاویزی پیش کش کو ڈرامائی شکل میں نشر کرنا فیچر ہے۔ فنی نقطہ نظر سے فیچر ایک بیانیہ ہے جو ایک سے زیادہ آوازوں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ فیچر کا بنیادی مقصد تفریخ ہوتا ہے۔ اگر اس میں خاص حقیقت بیانی سے کام لیا گیا تو اس کی صورت مضمون کی ہو جائے گی۔ لہذا اس میں حقیقت کو تصریحی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ فیچر میں ایسی باتیں شامل کی جائیں جو عام معلومات کا حصہ نہیں ہے۔ فیچر خصی ہو سکتا ہے اور موضوعاتی بھی، منظوم ہو سکتا ہے اور نثری بھی۔ شخصی فیچر میں کسی شخص کی زندگی کے اہم حالات و اتفاقات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ موضوعاتی فیچر میں کسی خاص موضوع مثلًا ادب، تاریخ، سیاست، سائنس، کھیل کو دوغیرہ کو بنیاد بنا کر جاتا ہے۔ ڈرامائی فیچر کو کرداروں کے مکالموں کے ذریعے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریڈ یو فیچر تحریر کرنے والے کے لیے طبقہ وقت یادواری کے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

ریڈ یو فیچر کی پیش کش کے لیے آواز کے اتار چڑھاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے بیک گراڈ میوزک کے ذریعے بھی ریڈ یو فیچر کے تاثر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

ریڈ یو فیچر کی لکھیں

جیسا کہ بتایا گیا فیچر کا بنیادی مقصد تفریخ ہوتا ہے، اس لیے فیچر لکھتے وقت سامعین کی تفریخ کا خیال رکھیے۔ تحریر میں ڈرامائی اور افسانوں کی نشر کا استعمال کیجیے۔ حقیقت کو ادبی انداز میں پیش کیجیے۔ موضوع کا انتخاب کرتے وقت سامعین کی دلچسپی کو پیش نظر رکھیے۔ فیچر میں کوئی نئی بات پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آسان الفاظ اور مؤثر مکالمے کا استعمال کیجیے۔

1.4.2 ڈاکیومنٹ

ڈاکیومنٹ کی معنی دستاویز یا حقائق کو کمیٹری کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ ڈاکیومنٹ کمیٹری کے اصطلاحی معنی دستاویز یا حقائق کو کمیٹری کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ ڈاکیومنٹ کمیٹری کو دلچسپ بنانے کے لیے کمیٹری کے دوران انٹرو یو کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دراصل ڈاکیومنٹ کمیٹری حقیقت میں تخلیقیت کی آمیزش سے تیار ہوتی ہے فن اور پیش کش کے لحاظ سے ڈاکیومنٹ کی دو قسمیں ہیں۔

(ii) ڈاکیوڈراما (iii) ڈاکیومنٹ



ڈا کیو مینٹری اور ڈا کیو ڈراما دنوں ہی کسی حقیقی واقعے کو بنیاد بنا کر تیار کیے جاتے ہیں اور دنوں میں حقیقت کے عضو کا غلبہ ہوتا ہے۔ البتہ ڈا کیو ڈراما میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان واقعات کو ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جائے جو حقیقی طور پر پیش آچکے ہیں۔ اس لیے ڈا کیو ڈرامے کی پیش کش میں ڈرامے کے تمام اجزاء پلاٹ، کردار، مکالمہ، وحدت عمل، وحدت زماں و مکاں کے علاوہ تصاد و کشمکش کا ہونا ضروری ہے۔ ڈا کیو مینٹری میں واقعات کی ڈرامائی انداز میں پیش کش کی نسبت ایسی فضایا قائم کرنے پر توجہ کی جاتی ہے جو حقیقی معلوم ہو۔ اس میں ڈرامائی عناص شامل کیے جاتے ہیں۔ کہیں کچھ کردار وضع کر دیے جاتے ہیں جوان و اقدامات و حالات کو مکالمائی انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ڈرامے کا سالطف محسوس ہوتا ہے۔

» ڈا کیو مینٹری کیے لکھیں

ڈا کیو مینٹری لکھنے کے لیے پہلے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مواد حاصل کیا جاتا ہے اور تحقیق کردہ مواد کو مرتب کر کے کنشٹری لکھی جاتی ہے۔ کنشٹری کے درمیان ضرورت کے مطابق انٹرو ڈیز کا استعمال ڈا کیو مینٹری کو موثر بناتا ہے۔ ڈا کیو مینٹری کی اسکرپٹ لکھنے وقت سامعین کی دلچسپی اور حقائق کی پیش کش کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسکرپٹ لکھنے وقت سادہ، سلیس اور موثر زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈا کیو مینٹری کسی تاریخی واقعے یا کسی مخصوص عہد سے متعلق ہے تو اسی زمانے کی لفظیات اور اسلوب کا استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔

1.4.3 ریڈ یوڈ راما

ریڈ یوآواز کا میڈیم ہے جب کہ سٹیچ اور ٹیلی ویژن دید و شنید دنوں سے سر دکار کہتے ہیں۔ ریڈ یو میں ہر ایک کیف و جذبہ، مسرت و غم یہاں تک کہ خاموشی کو بھی آواز کے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ آواز کے ذریعے ہی کرداروں کی شبیہ سازی، صورت حال کی تصویر کشی، مناظر کی تخلیق، جذبات کی شدت یہاں تک کہ آنسوؤں کی احتجاجات کا احساس کرایا جاتا ہے جب کہ سٹیچ، فلم اور ٹیلی ویژن میں یہ سب کچھ متحرک صورت میں ہوتا ہوا دکھایا جاسکتا ہے۔ اس لیے ریڈ یو ڈرامے میں مکالمے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں حرکات و مکالمات اور فقر و عمل کے مراحل زبان، صوت، تاثر، موسیقی، مکالمہ اور گفتگو سے ہی طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں صوتی آہنگ، زبان کی موزونیت اور مکالموں کی برجستگی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

» ریڈ یوڈ راما کیے لکھیں

کسی بھی میڈیم کے لیے ڈراما لکھنے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈرامے کے ہمیٹی اجزاء میں پلاٹ، قصہ، کردار اور مکالمے کی بنیادی اہمیت ہے۔ ڈراما لکھنے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ پلاٹ جامع، قصہ



تہبہ دار، کردار متحرک اور مکا لے مختصر اور کپشش ہوں۔ ڈرامے کو مجموعی طور پر دلچسپ بنانے کے لیے نکمش، تذبذب اور تضاد کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ڈرامے کی تشكیل میں وحدتِ شلاشیعی عمل، زمان اور مکان کی وحدت کا استعمال اور ان کے امتران سے وحدتِ تاثر کا پیدا ہونا کامیاب ڈرامے کی دلیل ہے۔ مذکورہ تمام نکات ڈرامے کو پیش کرنے کے سبھی ذرائع کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔

1.4.4 ریڈیو ٹاک

کسی موضوع پر بے تکلف تبادلہ خیال کو ریڈیو ٹاک کہا جاتا ہے۔ اس کے موضوعات انسانی فلاح و بہبود، سائنس اور رکنالوجی، سیروسیاحت، تاریخ و تہذیب، جغرافیہ اور سیاست، کتابوں پر تبصرے، افسانے اور شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ریڈیو ٹاک میں کسی ایک موضوع پر کوئی ایک شخص بے تکلف گفتگو پیش کرتا ہے۔ ٹاک لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گفتگو کی فضای مصنوعی نہیں حقیقی معلوم ہوا اور طرزِ گفتگو بے تکلف ہو۔ ٹاک میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ متعلقہ موضوع کے سبھی نکات واضح ہو جائیں۔

ریڈیو ٹاک کیسے لکھیں

ریڈیو ٹاک، کسی موضوع پر ایک جامع نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے جسے مضمون کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کسی موضوع کا انتخاب کیجیے۔ پھر ایسا مضمون لکھیے، جسے دس سے پندرہ منٹ میں ریڈیو پر پیش کیا جاسکے۔ ریڈیو ٹاک میں مضمون نگاری کے تمام تقاضوں کو لٹوڑ رکھیے۔ آسان الفاظ اور چھوٹے جملوں میں اپنی بات کمل کیجیے۔

1.4.5 مباحثہ، مذاکرہ

مباحثہ بھی ایک اہم پروگرام ہے جس میں سماجی، معائشی، تہذیبی، ثقافتی، ادبی، سائنسی اور تاریخی موضوعات کے علاوہ ہنگامی نوعیت کے موضوعات اور حالات حاضرہ پر ماہرین اپنے نظریات و خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مباحثہ کا پروگرام عام طور پر تیس منٹ کا ہوتا ہے۔ جس میں چار یا پانچ شرکاء ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ایک موڈریٹر (Moderator) ہوتا ہے جو مباحثے کی سمت و فرقہ متعین کرتا ہے۔ اس پروگرام کا خاکہ کہ تیار کرنے یا اس میں شریک ہونے کے لیے متعینہ مدت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صحت مند مباحثے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ شرکاء سوالات کا جواب دیتے وقت ادھر ادھر بکھنے سے پرہیز کریں۔

مذاکرہ ریڈیو پرنٹر ہونے والا ایک اہم پروگرام ہے۔ اس میں بھی مباحثہ کی طرح مختلف علمی، ادبی اور معاشرتی موضوعات پر ماہرین کو مدعو کیا جاتا ہے، جو کسی طے شدہ موضوع پر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کسی ایک موضوع کے متعلق مختلف لوگوں کی رائے کے اظہار سے ریڈیو کے سامعین کی معلومات اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مذاکرے اور مباحثے کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ ماہرین اپنے موضوع کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔



مبانی اور مذاکرے میں ایک باریک امتیاز یہ ہے کہ مبانی کے دوران انٹکر یا شرکا ایک دوسرے کی گفتگو میں مداخلت کر سکتے ہیں لیکن مذاکرے میں عام طور پر شرکا یا مہرین ایک موضوع سے متعلق اپنے اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار کرتے ہیں۔

1.4.6 ریڈیو کی منظوم اصناف (منظوم ڈراما، اوپیرا یا غنائیہ اور ڈانس ڈراما)

نشریات کے ابتدائی زمانے میں ریڈیو سے نشر ہونے والی منظوم تخلیقات کو سینگیت روپ کیا منظوم فیچر کہا جاتا تھا۔ اس نوع کی پیش کش میں موضوعات سے زیادہ فضا اور کیفیت کی وحدت پر زور دیا جاتا ہے۔ منظوم ڈرامے کو لکھنے اور پیش کرنے میں تجربے کیے جانے لگے تو مہرین نے انھیں مختلف ناموں سے منسوب کر دیا۔ اس طرح یہ منظوم تخلیقات اوپیرا، ڈانس ڈراما، بیلے اور منظوم ڈرامے کی صورت میں اپنی آزادانہ اور امتیازی شناخت قائم کرنے لگیں۔

بیلے اور ڈانس ڈراما کا تعلق ریڈیو سے زیادہ اسٹیچن اور اسکرین سے ہے۔ جسے عرفِ عام میں اوپیرا کہا جاتا ہے۔ اسی کو ریڈیو والے غنائیہ کہتے ہیں۔ منظوم ڈراما، اوپیرا اور ڈانس ڈراما میں تحریری سطح پر بڑی مماثلت ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی واقعے یا احساس کو منظوم الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اسے منظوم ڈراما کہتے ہیں اور جب اس منظوم پیش کش میں موسیقی کا مسلسل استعمال ہو تو اسے اوپیرا کہلاتا ہے۔ اس طرح کسی احساس یا جذبے کو رقص کے ذریعے پیش کیا جائے تو اسے بیلے کہتے ہیں۔ اگر اس رقص میں مکالمے بھی شامل ہو جائیں تو اسے ڈانس ڈراما کہتے ہیں۔ گویا ان اصناف کی تخلیق کرتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ منظوم ڈرامے کے لیے مکالموں کا منظوم ہونا، اوپیرا کے لیے موسیقی، بیلے کے لیے رقص اور ڈانس ڈرامے کے لیے رقص اور مکالمے کا انتراج لازم ہے۔

منظوم ڈرامے میں قدیم قصوں، داستانوں یا دیگر اہم قصوں کو بنیاد بنا کر ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے تمام مکالمے منظوم ہوتے ہیں۔ ریڈیو پر ایک راوی قصے کو آگے بڑھاتا ہے اور دوسرے کردار منظوم مکالموں کو ترجمہ میں ادا کرتے ہیں۔ ان مکالموں کے ذریعے کرداروں کی شخصی خصوصیات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے ڈراموں کے لیے عام طور پر ایسے قصوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کے متعلق سامعین کو پہلے سے بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جب وہ پہلے سے معلوم قصے کو منظوم شکل میں سنتے ہیں تو بے حد لطف اندوڑ ہوتے ہیں۔

منظوم ڈرامے میں آپ کو غالباً کئی کرداروں کے لیے الفاظ تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ یہ شاعری (یعنی خاص ڈرامائی لمحوں کی زبان)، جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے) کرداروں کے اپنے اپنے خصائص کے لحاظ سے سب میں تقسیم ہونی چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کردار سے وہی الفاظ کھلوائیں جو اس کے لیے موزوں ہوں۔ جب کوئی کردار شعروں میں با تیں کر رہا ہو تو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود شاعر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ ہر کردار سے صرف اسی قدر شعر اور صرف اسی شدت کے ساتھ کھلوائے جو اس کردار کے ساتھ بہ آسانی منسوب ہو سکے۔ ان اشعار کا ایک اور جواز یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حصہ ڈرامے کی مطلوبہ کیفیت کو ابھارنے میں معاون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کردار کے منھ سے پُشکوہ اشعار، بہت موزوں معلوم ہوں لیکن ان اشعار کا ڈرامے کے عمل کے لیے موزوں ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ خاص موقعے کی جذباتی شدت کو پورے طور پر ابھار سکیں۔



اجنبی زندگی میں ریڈیو کے لیے ایک منظومہ تمثیل

کردار:

اجنبی

ہمیشہ سے۔ اپنے وطن میں۔ پہاں۔ ہر کہیں اجنبی۔ ہاں میں صحرائے وحشت کی ایک چیخ ہوں، اجنبی اور آوارہ چارسوں۔
پھول جب بھی جلے، شمع جب بھی بھگی، دل جہاں بھی لٹا،
میں اذیت سے روتا رہا.....

نووارد

میں ہمیشہ ترے ساتھ، تھکے سے قریب، اس قدر تیرے نزدیک ہوتا ہوں، تیراہر آنسو مری آنکھ سے ہو کے بہتا ہے۔ میرا بھی
دامن بھگوتا ہے۔

محجنے میری آواز سے جان — صورت تو آنکھوں کا اک دا ہمہ ہے۔

ایستر

اصل سے ناوارا توہی اصل حقیقت ہے اے ایستر،

دیوتاؤں کے اسرار کی محروم خاص!

وہ ستاروں کی گردش کی سب سے بڑی رازداں،

جس کی آہٹ پہ کلیاں چکلتی ہیں!

اہرمن اور اس کے درباری —

جہاں لفظ سب بے حقیقت ہیں! سایوں کی دنیا!

اجنبی: وہ تاریخ کا سب سے پُر ہول دن!

نووارد: ہاں، وہی شیطنت کے گھٹاٹوپ اندھیرے

کہ جب ایستر

اجنبی: دیوتاؤں کے اسرار کی محروم خاص

نووارد: جب ایستر

اجنبی: وہ ستاروں کی گردش کی سب سے بڑی رازداں، ایستر

نووارد: اپنے معبد میں شب بھرڑ پتی رہی



سرگرمی 6.2

مختلف ریئیائی اصناف سے متعلق لکھنے کے ضمن میں جو
بنیادی نکات ہیں، کلاس میں ان پر
تبادلہ خیال کیجیے۔



اس کی بے حرمتی، اس کی توہین —
اجنبی: تاریخ کا سب سے پُر ہول جرم
نووارد: اسٹرلٹ گئی،
اجنبی: دیوتا وہ ہمیں بخش دوا!
نووارد: ایستر گھوگی

اس کے ویران معبد کی دہنی پر جا کے دیکھو،
اچھی خون تازہ ہے

دیکھو ہاں کتنے بھوکے درندے اکھی تک اسے چاٹتے ہیں،
اجنبی: یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟

نووارد: تو نے وہ جشن خوبیں بھی دیکھا تھا،

جب ظلمت شب میں نغمہ شاخوں سے پھکارتے ناگ لپٹھوئے ان کا رس چوستے تھے؟
اجنبی: مجھے یاد ہے!

نووارد: تو نے اس وقت جتنے بھی آنسو بھائے تھے
وہ میرے سینے میں زخموں کے مانند محفوظ ہیں !!
اجنبی: ایستر گھوگی !!.....

نووارد: اس کے سنسان معبد میں اب کون شعیں جلائے گا؟
کوئی نہیں! روشنی گھوگی!

تم نے دیکھا نہیں، رات کتنی بھی مک ہے؟
گلیوں میں زخمی پرندے کہاں سے ٹرپتے ہوئے آگئے ہیں،
کبھی تم نے پہلے ہواں میں یہ پھر پھراہٹ سنی۔

— سید رضیٰ ترمذی

1.5 ٹیلی ویژن


ٹیلی ویژن عوامی ذرائع ابلاغ کا سب سے مؤثر اور مقبول میڈیم ہے۔ آواز کے ساتھ تصویروں کی ترسیل کے باعث ٹیلی ویژن سے انسانی جذبات اور شخصیت کی ترجیحی کو اکامیابی کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین پر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی مدد سے دور دراز علاقوں میں ہونے والے واقعات اور حادثات سے گھر پیٹھے واقفیت حاصل



ہو جاتی ہے۔ Tele اور Vision کے امتزاج سے لفظ ٹیلی ویژن بنا ہے۔ Tele کے لفظی معنی ہے دوری پر (Far off) اور Vision کے معنی ہیں دیکھنا۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے دور کی چیزوں کو دیکھنے پانے کے باعث ہی اس کا نام ٹیلی ویژن رکھا گیا۔

ٹیلی ویژن کی ایجاد 1922 میں اسکٹ لینڈ کے سائنسدار جان لوگی یئڑ Royal Logie Baird (John Logie Baird) نے کی۔ 1926 میں ہیرڈن نے Royal Institution میں ٹیلی ویژن کا تجربہ کیا تھا۔ نیویارک اور واشنگٹن کے درمیان سب سے پہلے تجربے کے طور پر ٹیلی ویژن پروگرام کو رفتار کے ذریعے پیش کیا گیا تھا اور اسے ٹیلی ویژن پروگرام سیریز کی پہلی کڑی مانا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پروگراموں کا دنیا میں پہلا ٹیلی کاست 1936 میں برطانیہ میں بڑش برڈ کا سٹنٹ کار پوریشن یعنی بی بی سی نے کیا۔ فرانس میں 1938 میں اور امریکہ میں 1941 میں ٹیلی ویژن پروگراموں کا ٹیلی کاست شروع ہو گیا۔

ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی ابتدا 15 ستمبر، 1959 میں تجربے کے طور پر یونیکسو کے ذریعے چلائے جا رہے ایک خصوصی پروجیکٹ کے تحت ہوئی۔ 15 اگست، 1965 میں ٹیلی ویژن کی روزانہ سروں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 1975 میں سٹیلابیٹ کے استعمال سے ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی۔ جس سے ٹیلی نشریات وہاں تک پہنچ سکیں، جہاں زمینی اسٹیشن کا گرنیں تھے۔ 15 اگست 1982 کو دو درشن نے رنگین ٹیلی ویژن نشریات کی ابتدا کی۔ رنگین لی۔ وہی کی آمد کے بعد لی۔ وہی چینیل کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں کیبل لی۔ وہی نشریات کا سلسہ شروع ہوا۔ اب لی۔ وہی محض سرکاری نشریہ نہیں رہا بلکہ پرائیوٹ کمپنیوں نے اس کی روزافزوں مقبولیت سے فائدہ اٹھایا۔ ایک کے بعد ایک نئے نئے چینیل شروع ہوتے گئے۔ تفریحی چینیل، فلمی چینیل، گاؤں کے چینیں اور 24 گھنٹے خبرنگر کرنے والے چینیل۔ کیبل لی۔ وہی یا پرائیوٹ لی۔ وہی چینیوں کی آمد کے بعد اس مواصلاتی وسیلے کی دنیا ہی بدلتے گئی۔ لی۔ وہی نے بدلتے سماجی، رحماتی کے مطابق پروگرام پیش کرنا شروع کیے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں پرائیوٹ لی۔ وہی چینیل مختلف نوعیت کے پروگرام پیش کرنے لگے۔ ان میں فلمی موسیقی



6.3 سرگرمی

لی وہی نیوز ٹیلیشن کی نمایاں خصوصیات کا ایک خاکہ بنائیے اور اس پر ساتھیوں کے درمیان اپنی رائے پیش کیجیے۔






اور فلموں سے متعلق گپ شپ کے علاوہ ٹی۔ وی سیریلوں کو بے حد مقبولیت ملی۔ بعض ٹی۔ وی چینیاں نے محض اپنے کسی ایک سیریل کی مقبولیت کی بنا پر بہت نام لکھا۔ ان ٹی۔ وی سیریلوں نے سماج کے بڑے طبقے کو متاثر کیا اور سماجی اقدار کو نیا رخ بخشنا۔ ٹی۔ وی سیریلوں کی تیاری میں کہانی لکھنے سے لے کر اسکرین پر پیش کش تک کئی مراحل ایسے آتے ہیں جن میں ماہر لکھنے والے اپنی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہانی لکھتا ہے، کوئی اسکرین پلے، کوئی مکالمے لکھتا ہے تو کوئی اسکرپٹ فلموں ہی کی طرح اس دنیا میں بھی موثر ادا کاری اور مکالموں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دل کو چھو لینے والی کہانی اور پُرانا مکالمے تحریر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس نصاب کا مطالعہ کرنے والے طالب علم اپنے ذوق و شوق اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے ٹی۔ وی کی دنیا میں اپنا کیریز بناسکتے ہیں۔ صرف سیریل ہی نہیں، فلمی دنیا سے متعلق دیگر پروگراموں یا فلمی دنیا کی گپ شپ کی پیش کش کے لیے بھی قلم کاروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹی۔ وی پرنٹ ہونے والے ہر پروگرام کی پلے اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی تیاری اور نشر کیے جانے کا مرحلہ آتا ہے۔

پرائیوٹ چینیاں کی آمد کے بعد تقریبی نویعت کے پروگرام پیش کرنے والے ٹی۔ وی چینیاں کے علاوہ خبروں کے چینیاں نے بھی اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ ایسے ٹی۔ وی چینیل 24 گھنٹے خبریں یا خبروں پر مبنی بحث و مباحثے کے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بعض نیوز ٹی۔ وی چینیل اپنے روپرٹروں اور خبریں پیش کرنے والوں کی مہارت کے سبب اپنی الگ بیچجان رکھتے ہیں۔ بعض ٹی۔ وی روپرٹر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہیں۔ کچھ ماہر صحافی بڑے لیدروں کو اپنے سوالوں سے اس قدر متاثر یا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اندر کا چیز کہنے پر آزاد ہو جاتے ہیں۔

اس یونٹ 'میڈیا' کے لیے لکھتا، میں بنیادی طور پر لکھنے کے ان فارمیٹس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے جن کا متعلق خبروں کے چینیل سے ہے۔ خبروں کے چینیل پر خبروں کی تیاری سے لے کر پیش کش تک جو مرحلہ سامنے آتے ہیں، ان کا مختصر ذکر بہاں پیش ہے۔

6.4 سرگرمی



ٹی۔ وی نیوز میں ایڈیٹنگ کے رول، اہمیت اور افادیت پر ایک مذاکرہ کیجیے۔





1.5.1 نیوزرپورٹنگ

رپورٹنگ صحافت کی ایک اہم کڑی تسلیم کی جاتی ہے اور اس کے بغیر کسی ادارے میں خبرنویسی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ رپورٹنگ کے لفظی معنی ہیں رپورٹ لکھنا یا بھیجا، اطلاع دینا، بتانا یا کہنا، معلومات فراہم کرنا۔ رپورٹر اس کام کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ رپورٹر کا کام ہے خبروں کی فراہمی یعنی انھیں حاصل کرنا یا اکٹھا کرنا اور انھیں کسی ذرائع ابلاغ کے لیے لکھنا۔ رپورٹر میں خبر کے حصول کے لیے ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ وہ خبر کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے۔ وہ خبر کی تک جاتا ہے۔ وہ واقعہ کی تحقیق اور تفہیش کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اس میں خبر کو تلاش کرنے کی حریت انگیز صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس خبر کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں کوئی حادثہ، جرم یا واردات ہو، پبلک میٹنگ، لیدروں کی تقریریں، سیمینار، پریس کانفرننس، شفاقت اور ادبی مGFLOU کا انعقاد ہو یا یکھیل کا میڈیا، وہاں رپورٹر موجود ملتے ہیں۔ رپورٹر کی ان خوبیوں کے سبب انھیں پریس کی دھڑکن کہا جاتا ہے۔



6.5 سرگرمی

ٹی وی خبروں کی پیش کش کے
بنیادی نکات پر اپنے ساتھیوں
سے تبادلہ خیال کیجیے۔



سرگرمی 6.6

اگر آپ سے کسی خبر کی روپرٹ کے لیے کہا جائے تو
آپ ایک اچھے روپرٹ کارول کیسے داکریں گے؟



روپرٹ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اخبار، ٹی وی، ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ کی آنکھ، کان، ناک اور منہ ہوتے ہیں۔ واقعات کے چشم دید ہونے کے باعث وہ آنکھ ہیں۔ گلی، سڑک، اسٹیچ، آڈیو یا میم کی مختلف سرگرمیوں کو سن کر اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں اس لیے وہ کان ہیں۔ وہ خر کی اہمیت کو بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں یا سوچ لیتے ہیں اس لیے وہ ناک ہیں۔ اپنی مضبوط و اور غیر جانبدار تحریروں سے خبر کو عوام کے سامنے سنانے کا کام کرتے ہیں اس لیے وہ منہ ہیں۔ دراصل روپرٹ صحفات کا اہم جز ہے۔ وہ اپنی روپرٹ کے ایک ایک حرف کے لیے ذمہ دار اور جواب دہ ہوتا ہے۔

1.5.2 اسکرپٹ نگاری

الیکٹرانک میڈیا میں ہر پروگرام کی اشاعت سے قبل اس کی اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اسکرپٹ ایک تکنیکی نویعت کی دستاویز ہے جس میں پروگرام کے آغاز سے لے کر آخر تک کی تمام تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ پرنسٹ میڈیا میں اگر کوئی کہانی شائع کی جاتی ہے تو اسے بغیر کسی تبدیلی کے جوں کا توں شائع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن



الکٹرانک میڈیا میں نشر ہونے والے پروگرام کا تعلق اس کی پیش کش سے ہے اس لیے کسی مشہور کہانی کو بھی بغیر تبدیلی کے من و عن پیش نہیں کیا جاتا۔ پہلے کہانی کو بنیاد بنا کر اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے پھر اس کی پیش کش کا مرحلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر پریم چند کی کہانی 'عیدگاہ' اگر کسی کتاب یا رسمے میں شائع ہوگی تو پریم چند کے اصل متن کو شائع کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی یا اصلاح نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر اسی کہانی کو ٹوٹی۔ وہ یا فلم اسکرین پر پیش کرنا ہے تو پھر پریم چند کا اصل متن کافی نہیں ہو گا۔ اس متن کو اسکرپٹ کی صورت میں ڈھالنا ہو گا۔ کہانی کی پیش کش سے متعلق تمام تفصیلات درج کی جائیں گی۔ یہ بتایا جائے گا کہ کہانی کے آغاز میں پریم چند نے جو منظرِ ظنوں میں بیان کیا ہے اس کی تصویری پیش کش کے لیے پروگرام کے ہدایت کار کو کن کن مناظر کی تصویریں پیش کرنی ہیں۔ اسکرپٹ میں یہ بھی تحریر کیا جائے گا کہ کہانی میں جو میانیہ (Narration) ہے وہ کسی کی زبان سے ادا ہو گا یا اسے مناظر کی صورت میں دکھایا جائے گا۔ مثلاً اسی کہانی میں عید کے دن حامد کی دادی کو اس صورت کے لیے اسکرپٹ نگاری تحریر کرے گا کہ ایک بوڑھی عورت کو اسکرین پر پیش کیا جائے جس کے چہرے پر اسی اور فرمندی چھائی ہوئی ہے۔ وہ عید کے دن بھی فخر مند ہے کہ اس کا پوتا حامد عید کی نماز پڑھنے کس کے ساتھ جائے گا۔ میلے میں کچھ خریدنا چاہے گا تو کہاں سے خریدے گا۔ اسکرپٹ نگارنے صرف یہ کہ مناظر کی جزئیات و تفصیلات تحریر کرے گا بلکہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ کسی منظر کا دورانیہ (مدّت) کتنا ہو گا۔ اس کی پیش کش کا طریقہ کارکیا ہو گا۔ کردار کس کس مقام پر۔ کھڑے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے یا لیٹھے ہوئے ہوں گے، یا کسی کام میں مشغول ہوں گے۔ وہ کرداروں کے حرکات و سکنات اور تاثرات بھی تحریر کرتا ہے۔ پھر ہر کردار کے مکالموں کو تسلسل کے ساتھ الگ الگ درج کرنا بھی اسکرپٹ نگار کی ذمہ داری ہے۔ اسکرپٹ نگار صوتی تاثرات یعنی موسیقی اور ساؤڈ افیکٹس کے متعلق بھی ہدایات تحریر کرتا ہے۔ اسکرپٹ نگار پورے پروگرام یا کہانی کی تخلیص کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اور اسے دلچسپ انداز میں اسکرپٹ میں پیش کرتا ہے۔

اسکرپٹ کہانی کی پیش کش کے لیے ہو کسی ٹی۔ وہ سیریل، یا فلم یا پھر موسیقی پر

سرگرمی 6.7

ایک اچھی اسکرپٹ کی خصوصیات پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔



میں کسی پروگرام کی پیشکش کے لیے، ہر ایک میں بہت سی تکنیکیں باقی شامل ہوتی ہیں جو اسکرپٹ نگار کو اپنی اسکرپٹ میں تحریر کرنی ہوتی ہیں۔ جن باتوں کو ہم نے اوپر قدرے وضاحت سے بیان کیا اُنھیں نکات کی شکل میں یہاں تحریر کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے طالب علم یہ سمجھ لیں کہ اسکرپٹ میں بنیادی طور پر کون کون آئی باقی شامل ہوتی ہیں۔

Original Idea or Basic Concept	بنیادی خیال
Synopsis	خلاصہ / تنجیح
Treatment	طریقہ کار
Shooting Script	منظر نامہ
Dialouge and Narrative	مکالمہ اور بیانیہ
Audio and Visual Continuity	بصری و سمعی تسلسل

پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے اسکرپٹ میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ یعنی ٹی۔ وی سیریل کے لیے اسکرپٹ لکھنے کے تقاضے، غزل یا موسیقی پر متنی کسی پروگرام کے لیے اسکرپٹ تیار کرنے کے تقاضوں سے مختلف ہوں گے۔ اسی طرح فلم صنعت کے اداکاروں کی خانگی اور فلمی مصروفیت کی گپ شپ پر متنی پروگرام کی اسکرپٹ میں چھڑارے دار اور پُر لطف زبان و بیان کا استعمال کیا جائے گا جب کہ خبروں کے سنجیدہ پروگرام کی اسکرپٹ میں سادگی اور ممتاز کاخیال رکھا جائے گا۔

الیٹرائیک میڈیا میں اسکرپٹ نگاری ایک ایسا فن ہے جس میں کیریزِ بنانے کے وسیع امکانات ہیں۔ ریڈی یو اور ٹی۔ وی سے نشر ہونے والے وہی پروگرام زیادہ مقبول ہوتے ہیں جن کی اسکرپٹ معاشرتی زندگی کو ذہن میں رکھ کر سادہ اور دلچسپ زبان میں تیار کی جاتی ہیں۔ اردو کے طالب علم کو اردو افسانوں، ناولوں، نظموں اور غزلوں کے مطالعے کے سبب معاشرتی زندگی کا گہرا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ادب کے مطالعے سے وہ زبان و بیان یا اظہار کے ہتر و سبلوں پر بھی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی اور گہری باتوں کو کس طرح غزل کے ایک شعر میں سمیٹا جاسکتا ہے۔ وہ اسکرپٹ لکھتے وقت اشعار کا استعمال کر سکتے ہیں، کہانیوں کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ پخت اور بر جستہ مکالے تحریر کر سکتے ہیں۔ ضرورت





اس بات کی ہے کہ وہ اسکرپٹ نگاری کے تکمیکی تقاضوں سے پوری واقفیت حاصل کر لیں اور پھر اردو زبان و ادب کے اپنے مطالعے کو اسکرپٹ تحریر کرتے وقت بروئے کار لائیں۔

1.6 سینما / فلم

ایجاد ہوئی تو اس وقت Cinema یا Kinema یونانی لفظ ہے۔ 19 ویں صدی میں جب سینما کی کہا گیا۔ فرانس کے باشندے اسے Kinematograph کی جگہ Cinematograph کہا گیا۔ اس لفظ کی طوالت کی وجہ سے اسے مختصر Cinematograph کر لیا گیا اور پھر ہر جگہ یہی راجح ہو گیا۔ ایک لمبے وقت تک خاموش فلموں کا دور چلا۔

1926 میں Veetaphone Corporation نیویارک میں Warnerbrothers Theatre میں 'ڈان جان' نامی فلم دکھائی گئی۔ یہ دنیا کی پہلی بولتی فلم تھی۔ یہیں سے سینما کو مقبولیت ملنی شروع ہوئی۔ ہندوستان میں سینما کا سفر 1896 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز فرانس کے لوئیسر برادران نے کیا۔ وہ اسے سب سے لائے اور پھر کلکتہ اور دوسرے بڑے شہروں میں اس کی نمائش ہوئی۔

1913 میں ہندوستانی فلم انڈسٹری کے بنیاد گزار دادا صاحب پھاٹکے نے راجہ ہریش چندر نام کی فلم بنائی۔ اسے پہلی کمبل ہندوستانی فلم ہو نے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ 4 ریل کی فلم تھی جس کی مدت ایک گھنٹہ تھی۔ یہ ہندوستانی زبان کے ساتھ انگریزی میں بھی بنائی گئی تھی۔ دادا صاحب کو اسے بنانے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سرمایہ کی کمی کے علاوہ فلم



سرگرمی 6.8

ہمارے ملک کی فلم صحافت میں فلمی تبصروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔



سرگرمی 6.9

ساتھیوں کے ساتھ اپنی کسی پسندیدہ فلم پر تبصرہ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کے نزدیک وہ کہن خصوصیات کی حامل ہے؟



سازی کے آل جات بھی ایجاد کرنے پڑے، بالآخر انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ دادا صاحب پھا لکے کا پورا نام دھندری راج گوند پھا لکے تھا۔ ان کی پیدائش ایک روایتی خاندان میں ہوئی تھی مگر ان کی اختراعی طبیعت نے ان سے بہت کام لیے۔

فلمی تبصرہ 1.6.1

ہندوستانی فلم صحافت میں سب سے آسان کام فلموں کا تبصرہ ہی مانا جاتا ہے جب کہ بیرونی ممالک میں فلم بصر اسے تسلیم کیا جاتا ہے جو فلم صحافت میں معقول محنت کرنے کے بعد اس کے فن سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہو۔ ایک تجربہ کار مبصر، فلم کی خوبیوں اور خامیوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ فلم کے پیچیدہ پہلوؤں کو جاگر کرتا ہے۔ وہ اپنے تبصرے سے رائے سازی کا بھی کام کرتا ہے۔

فلم بصر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فلم سازی اور ہدایت کاری کے رموز و نکات سے آشنا ہو۔ ایسے مبصرین کی رائے ناظرین کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے لیے بھی قابل قدر ہوتی ہے۔ فلم تبصرہ لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ ضروری ہے:

- فلم آرٹ کی گہری سمجھھو۔
- فلم سازی کے تمام پہلوؤں مثلاً اسکرپٹ، ہدایت، شوٹنگ، اداکاری، نغمہ، موسیقی وغیرہ پر باریک نگاہ ہو۔
- اگر کوئی میں حقیقتاً جاندار ہے تو اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر کو دیا جانا چاہیے یا رائٹر کو؟
- مکالموں کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹر نے کیسے سے کتنی اور کیسی باتیں کی ہیں؟
- فلم میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ فلم کی انفرادیت کیا ہے؟
- اگر فلم میں کوئی نیا تجربہ یا اطريقہ کار اخیار کیا گیا ہے تو اس کی وضاحت کی جائے۔

فلم پر تبصرہ کرتے وقت کسی فلم کے پلاٹ، اس کے قصے، اس کے کردار، اس کے نغمے، اس کی فوٹوگرافی سنیمیوگرافی، اس کے مناظر، اس کے مکالمے، اس کے آغاز، ارتقا اور اختتام پر نظر رکھنی چاہیے۔ مثلاً فلم کی کہانی کا پس منظراً اگر تاریخی ہے تو اس کی زبان، اس کے مکالمے، اس کے کردار اور کرداروں کا لباس، فلم کے مناظر اسی زمانے سے مناسبت رکھنے والے ہیں کہ نہیں۔ فلم جس موضوع پر بنائی گئی ہے، وہ دیگر فلموں سے کس قدر مختلف ہے۔ فلم سے کیا پیغام دیا گیا ہے اور سماج پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔

فلم کی پیشکش میں طریقہ کار (Treatment) کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اس کی نشان دہی بھی ضروری ہے۔

تبرہ

ماجھی - دی ماونٹین میں

فلم ساز: نیالا تھگنٹا، دیپا ساہی
ہدایت کار: کیتن مہتا
موسیقی: سندیپ شانڈلی، ہمتیش سونک نغمہ گار: دیپک رولا، کیتن مہتا، کمار
تحریر: کیتن مہتا، انجم رجب علی، مہیندرا جھاکر
اداکار: نواز الدین صدیقی (درستھ ماجھی)، رادھیکا آپٹے (پھگوئیا، ماجھی کی بیوی)، اشرف الحق (گکرو، ماجھی کا باپ)، یتمان شودھولیا (لکھیا، زمیندار) اور گورو دویی (آلوک جھا، صحافی)

ہماری فلمی دنیا ہمیشہ نئے نئے تجربات سے گزرتی رہی ہے۔ ان دونوں سچے واقعات یا اہم شخصیات کی زندگی پر مبنی فلمیں بنانے کی روایت کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ بھاگ ملکا جھا بھاگ یا پان سکھ تو مر، معروف شخصیات کی زندگی پر مبنی ان فلموں نے نہ صرف ناقدین فلم کو اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ یہ عوام میں بھی مقبول ہوئیں۔ ماجھی - دی ماونٹین میں، بھی ایسی ہی ایک فلم ہے جو بھار کے ایک دور دراز واقع گاؤں کے انتہائی پسمندہ درستھ ماجھی کی جدوجہداور عزم و حوصلے کی داستان ہے۔

فلم 21 اگست، 2015 کو یلیز ہوئی تھی۔ درستھ ماجھی، اپنی زندگی میں پہاڑ کا سینا چیر کر عام لوگوں کے لیے سڑک بنانے کے سبب ماونٹین میں کے نام سے مشہور ہوا۔ ماجھی پسمندہ طبقے کا ایک غریب بندھوا مزدور ہے۔ جو 1960 سے بھار کے ضلع "گیا" کے نزدیک "گھلوڑ" میں اپنی بیوی پھگوئیا دیوی اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتا آیا ہے۔ اس کا گاؤں ایک پہاڑ کی وجہ سے دنیا کے باقی حصے سے کتنا ہوا تھا۔ کسی دوسرے شہر یا قصبے تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کے گرد لمبا چکر کاٹ کر پہنچنا پڑتا تھا جس کے سبب گاؤں کے لوگ بینا دی سہولت سے محروم تھے۔ ایک روز ماجھی کی بیوی پہاڑ کو چڑھ کر پار کرنے کی کوشش میں پھسل کر گرجاتی ہے اور شدید رخی ہو جاتی ہے۔ رخی بیوی کو پہاڑ کا چکر لگا کر قبھے کے اسپتال تک لے جاتے ہوئے کافی وقت گزر جاتا ہے اور اس کی موت



واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی کی موت مانجھی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر راستہ اتنا طویل نہ ہوتا تو اس کی زخمی بیوی کا بروقت علاج ہو جاتا اور وہ بخ سکتی تھی۔ وہ طے کرتا ہے کہ پہاڑ کو کاٹ کر قبصے تک خنصر راستہ بنائے گا۔ جب مانجھی پہاڑ کاٹ کر راستہ بنانے لگا تو لوگ اسے خطی اور

بیوقوف کہنے لگے۔ لیکن 22 برس کی مسلسل اور تہاں محنت و مشقت کے بعد اس نے صرف ہٹھوڑے اور چھپنی کی مدد سے 360 فٹ لمبا، 25 فٹ گہر اور 30 فٹ چوڑا راستہ بنا ڈالا۔ مانجھی کی موت 2007ء میں ہوئی۔

فلم مانجھی، ایک معمولی انسان کی محبت، محنت اور جنون کی حیرت انگیز کارنا مے کی داستان ہے۔ اس میں دھمایا گیا ہے کہ اگر انسان میں حوصلہ اور جذبہ ہو تو وہ مشکل سے مشکل راہ سے گزر کر اپنی منزل پا سکتا ہے۔ فلم میں زمیندارانہ نظام کے جبرا اور پسمندہ طبقے کے استھمال کو بڑی بے باکی سے پیش کیا گیا ہے۔ مانجھی کے کردار میں احتجاج ہے۔ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ جس کے لیے اسے زد کوب بھی کیا جاتا ہے۔


فلم مانجھی عزم و حوصلے، انسان دوستی اور قوم و ملک کے لیے خود کو وقف کرنے والے ایک عام ہندوستانی کی سبق آموز





داستان ہے۔ فلم میں ماجھی کے کردار کو نواز الدین صدقی نے ادا کیا ہے اور اس کردار کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ ان کی زبان سے تکیہ کلام کے طور پر بار بار یہ جملہ ادا ہوتا ہے 'شاندار، جبر جست، جنہے باد' (شاندار، زبردست، زندہ باد)۔ انھوں نے اس کردار کو اس طرح جیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی درستھ ماجھی ہیں۔

فلم 'ماجھی' دی ماونٹین میں، موثر بیانیہ،



جاندار مجبت، حوصلہ مندری، شدید جذبہ، انتہائی جنون اور قوتِ عزم کی کہانی ہے۔ یہ فلم عمدہ فوٹوگرافی، بامعنی مکالے، دل کش موسیقی، شاندار ادا کاری اور کامیاب ہدایت کاری کی بہترین مثال ہے۔ فلم میں امڑوں سے پہلے جگہ جگہ مزاح اور رومان پیدا کر کے ناظرین کو سخیہ پیغام کو قبول کرنے کے لیے فضا ہموار کی گئی ہے۔

1.7 انٹرو یو

انٹرو یو، ایک سنجیدہ اور فکری وہنی عمل ہے۔ ایک بامعنی انٹرو یو کرنا کسی چیز سے کم نہیں ہوتا۔ یہ کسی اصل پروگرام کی تخلیق کرنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ انٹرو یو کسی اہم شخصیت، اعلیٰ عہدوں پر فائز کسی سرکاری افسر، آرٹ یا بنس کی دنیا سے متعلق کسی شخص یا پھر کسی عام آدمی سے ہو سکتا ہے۔ انٹرو یو لینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کا انٹرو یو لینا ہے، اس کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی جائے۔




الیکٹرائیک میڈیا میں انٹرو یو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کے ساتھ انٹرو یو کرنے کے لیے پیک لیشن افسر یا پرنسپل انفارمیشن افسر کے بنائے گئے ڈیزاائن کے مطابق ہی رپورٹ کو اپنا سیٹ تیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اگر یہ ایک ٹیلی ویژن انٹرو یو ہے تو کئی لوگ درکار ہوں گے۔ جیسے کیمرہ میں، ساٹوڈریکارڈس، لائن ٹیلینیشن اور ساؤٹ ٹیلینیشن وغیرہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انٹرو یو کسی اسٹوڈیو میں منعقد کیا جائے۔ ایسی صورت میں بھی کچھ مناسب انتظامات کرنے ہوں گے۔ ریڈیو ایکسپریس کے لیے ایک بہت اچھی ریکارڈنگ میشن کی ضرورت

6.10 سرگرمی

آپ ریڈیو اور ٹی وی پر بہت سے لوگوں کے انٹرو یو سننے اور دیکھنے ہوں گے۔ انٹرو یو کے مضمون میں نیادی نکات کی روشنی میں کسی انٹرو یو کا جائزہ لیجیا اور کلاس میں پیش کیجیے۔





ہوگی۔ اس میں خاص طور پر مائیکروfon اور لپیل کا استعمال کیا جانا ضروری ہے جو باہری یا غیر ضروری آواز کو مائیکروfon میں جانے سے روکتا ہے۔ انٹرویوئنر کیے جانے والے پروگرام کا ٹرانس کرپشن کرنا بھی ضروری ہے۔ انٹرویو کے الگ الگ حصے بن کر اس کی پہلے سے ہی نشان دہی کر لینی چاہیے اور انٹرویو کی ضرورت کے مطابق ایڈٹ کر کے سلسلہ وار بنادیا چاہیے تاکہ اس میں تسلسل اور مناسبت برقرار رہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایڈٹ ایڈیٹر کی ضرورت ہوگی۔

انٹرویو کی شروعات کسی ایسے سوال سے کرنی چاہیے جس کا دائرہ وسیع ہو۔ اس سے صحافی کو اس شخص کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہی اپنے سوالات کوٹھیک سے ذہن نشین کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انٹرویو کے دوران اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ روپورٹر کو کچھ ایسی اطلاعات مل جاتی ہیں جس کی اسے قطعی تو عنینہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں روپورٹر کو ہنی طور پر پھر سے نئے سوالات کے لیے تیار رہنا ہو گا تاکہ انٹرویو کی سمت اور رفتار غلط راہ پر نہ پڑنے پائے۔ انٹرویو کے دوران بہت زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور یہ پیداہ سوالوں سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک انٹرویو دینے والا ہنی طور پر سکون محسوس نہیں کرے گا تب تک کوئی کارآمد بات معلوم نہیں ہو پائے گی۔

1.8 اشتہار

آج کے دور کو اگر اشتہار کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ طرز معاشرت، آداب زندگی، رہنمی، خوردن و نوش، لباس، آرائش و زیبائش، تعلیم و تفریح سے لے کر مذہب، سیاست وغیرہ سماج کے ہر شعبے میں اشتہار نے اپنی جگہ بنالی ہے۔ تعلیم کی تزویج اور صنعت کاری کے اثر کے نتیجے کے طور پر آدمی صارف (Consumer) بن کرہ گیا ہے اور آج اس کی سرگرمی کا ہر فصلہ اشتہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے گھر میں رہیں گے، کہاں پڑھیں گے، کہاں ٹریننگ لیں گے، کہاں نوکری کریں گے، کہاں اپنا کار و بار کریں گے، کہاں شادی کریں گے، معاشری ذرائع کہاں سے فراہم ہوں گے، ان سب کا فیصلہ کرنے میں اشتہار کا اہم رول ہے۔

اشتہار عام طور پر کسی شے، ہنر، مہارت یا خدمت سے صارفین کو واقع کرتا ہے۔

6.11 سرگرمی

ریڈیو اور ٹی وی پر آپ دن رات بے شمار اشتہارات سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی اشتہار کی حقیقت، عنوان سے کلاس کے طلباء کے درمیان ایک مباحثے کا انعقاد کیجیے۔





ان میں خریدنے کی خواہش بیدار کرتا ہے۔ بہت سی موجود اشیاء میں سے ایک کا انتخاب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کسی شے کے مخصوص برائٹر کے تین ان میں رغبت پیدا کرتا ہے۔

ریڈ یو، ٹی وی، رسائل اور اخبار کے ذریعے، پوسٹر، دیوار پر لکھی عبارتیں، بس، ٹرین اور سڑک پر بڑے بڑے سائز کے ہو رہے گے، کھلیل کے میدان میں، سینما گھر میں، ریسٹوران میں اور جہاں بھی آپ جائیے اشتہار آپ کی نظر وہ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کے دل و دماغ پر ہر وقت چھائے رہتے ہیں۔

1.8.1 ریڈیائی اشتہار

ریڈ یو سمی میڈیم ہونے کے باعث آواز کا جادو بکھیرتا ہے اور جھے بھر کے اندر نہ یوں، سمندروں اور دور دراز کے پہاڑوں سے گزرتا ہوا سات سمندر پار ٹیٹھے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میڈیم کو اشتہار کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں 1957ء میں وودھ بھارتی کے کرٹیل پروگرام کے ساتھ ریڈیائی اشتہار کی ابتدا ہوئی۔ ریڈ یو اشتہار میں لفظ اور آواز کی اہمیت ہے۔ کم سے کم لفظوں میں موثر اشتہار دل کو چھو لیتے ہیں۔ اگرچہ ریڈ یو سے نشکیا گیا اشتہار مخفی ہوتا ہے۔ تاہم بار بار نشر ہونے کے باعث سامعین کے ذہن میں ایسی جگہ بنالیتا ہے کہ اسے کسی بھلا یا نہیں جاسکتا ہے۔ عمده موسیقی اور موثر مکالموں کے ذریعے نشکیا گیا اشتہار سامعین کے دل و دماغ پر اپنادیر پاٹر چھوڑ جاتا ہے۔ ان دونوں صنوعات یا خدمات کے اشتہارات کے ساتھ ایک ٹیگ لائن نشر کرنے کی روایت قائم ہو گئی ہے۔ یہ ٹیگ لائن جتنی آسان، سہل اور مربوط ہو گئی اتنی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو گا۔ مثلاً حکومت کی جانب سے پولیوکی دو اپلائے جانے کے اشتہار میں دوبوند زندگی کی، یا ایل آئی سی کے اشتہار میں زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی، جیسی ٹیگ لائن سامعین کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ ٹیگ لائن سنتے ہی فوراً ان کا ذہن اس چیز یا خدمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کی تشویش کی گئی ہے۔ اس طرح اگر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے کسی چیز یا خدمت کے اشتہار کے لیے کوئی ٹیگ لائن وضع کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ عام کی زبان کا مقبول فقرہ بن جائے۔

1.8.2 ٹی وی اشتہار

ٹی وی سمی اور بصری دونوں میڈیم ہونے کی وجہ زیادہ موثر اور طاقت ور میڈیم ہے۔ ٹی وی۔ ایک ایسا مقبول وسیلہ ہے جس کی رسائی عوام کے بہت بڑے حصے تک ہے۔ اس لیے بڑی بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی تشویش کے لیے ٹی وی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ حکومت بھی اپنی پالیسی یا اسکیم کی تشویش کے لیے ٹی وی پر اشتہار دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے بعض اشتہارات اتنے مقبول ہیں کہ ہم انھیں بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر ٹی وی اشتہارات دس، میں یا تمیں سینئٹ کے ہوتے ہیں۔ اس قلیل مدت کے اندر کسی چیز کی اہم ترین خصوصیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین پر یہ تاثر قائم کم ہوتا ہے کہ جس چیز کا اشتہار وہ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ کارآمد اور استعمال میں آسان ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو مذکور کر ٹی وی اشتہار بنائے جاتے ہیں۔ ٹی وی اشتہار





سرگرمی 6.12

اینکر کی بنیادی خصوصیات کی روشنی میں ریڈیو، فی وی کے کسی پروگرام میں اینکر کے روکا جائزہ بھیجے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان پیش کیجیے۔



بنانے سے قبل اس کی اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تحقیقی صلاحیت کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ بڑی بڑی باتوں کو کم سے کم الفاظ میں اس طرح پیش کیا جاسکے کہ بھروسہ پورتا ثرا قائم ہو۔

1.9 ریڈیو اور فی وی اینکرنگ

انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 'لنگر ڈالنا'، پانی کے جہاز یا غبارے کو باندھنے کا لنگر۔ الکٹر انکر ایمیں اینکر اسے کہتے ہیں جس کی مدد سے پورا پروگرام ایک دھاگے میں پروپا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ریڈیو اور فی وی میں اینکر اپنے ادارے کا چھرو ہوتا ہے۔ ریڈیو میں تو اینکر سامعین کی نظر وہ کے سامنے نہیں ہوتے لیکن اپنی آواز کا جادو بکھیر کر سامعین کے ایک بڑے طبقے کو پانہ ہم خیال بنا لیتے ہیں۔ اس کے عکس فی وی میں وہ ناظرین کے سامنے ہوتے ہیں۔

اینکرنگ صحافت کی ایک شاخ کی شکل میں پروان چڑھی ہے۔ جب بات ریڈیو کی آتی ہے تو سب سے پہلے ابھر کر سامنے آتی ہے، آواز۔ یعنی ریڈیو پورے طور پر آواز کی دنیا ہے۔ اس لیے ریڈیو اینکر کی آواز بہت صاف ستری اور لائق سماعت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ریڈیو میں آواز ہی اینکر کی سب سے بڑی پوچھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ریڈیو میں اینکرنگ کرتے وقت تناظر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیوں کہ ریڈیو کو تناظر کے لیے معیاری ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے اینکر کو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پروگرام کی پیش کش کرنی ہوگی کہ جو بچھ بولا جائے وہ درست ہوا وہ سامع آپ کے تناظر کو مشابی مان کر سکیں گے۔ ریڈیو اینکرنگ میں آواز کے زیر دبم پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے عکس ہندوستان کے نجی نیوز چینلو اب ایسے اینکرز کا انتخاب کرتے ہیں جو زبان اور فطری پیش کش پر تو گرفت رکھتے ہی ہوں، ساتھ ہی واقعات کا تیزی سے تجزیہ کر سکتے ہوں اور عصری موضوعات پر مہارت رکھتے ہوں۔ اب اینکرنگ ایک ایسی ذمے داری کی شکل میں ابھری ہے جسے کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے سخت محنت، لگن اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ عصری موضوعات پر گہری نظر اور تجزیاتی نظریہ مطالعے سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اینکر کی بنیادی صفات کو اس طرح تقییم کیا جاتا ہے۔



- آواز اور بولنے کا اشائیں
- جسمانی زبان

- خبر سے تعارف
- زبان کا علم اور درست تلفظ

• خبر سے تعارف

اینکر کو کسی خبر کے حال کے ساتھ ہی اس کے پس منظر سے بھی واقع ہونا چاہیے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہوئی چاہیے کہ وہ خبر کی معروضیت کو سمجھ سکے۔ اینکر اگر کسی خبر کو غلط پڑھتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر خود اسی کی شبیہ پر پڑتا ہے۔ اس لیے اینکر کو خبروں کی دوڑتی بھاگتی دنیا سے رابطہ قائم رکھنا چاہیے۔

• آواز اور بولنے کا اشائیں

ویسے تو ہر انسان کی آواز اور بولنے کا طریقہ دوسرا سے الگ ہوتا ہے لیکن اینکر گم کرتے وقت اپنے اشائیں پر مسلسل نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ اینکر کی آواز نہ صرف موثر ہوئی چاہیے بلکہ زیور میں بھی مناسبت ضروری ہے۔ اینکر خواہ کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو، ٹیکلی کا سٹ سے پہلے اسے نیوز اسٹوری کو بار بار پڑھنے کی عادت برقرار رکھنی چاہیے۔ اینکر اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ کس لفظ پر زیادہ زور دینا ہے اور کس پر کم۔ بولنے کی رفتار میں مناسبت ہوئی چاہیے۔ جملوں کے درمیان میں صحیح موقعوں پر ہلاکا و قمہ لینا ہے بھولیں۔

• زبان کا علم اور درست تلفظ

جیسا کہ پہلے ذکر آیا نیوز اینکر کے لیے زبان کا علم اور صحیح تلفظ ضروری ہے۔ اس لیے نیوز اینکر خبریں پڑھنے وقت تلفظ کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے تلفظ میں شبہ ہوتا ہے تو ماہرین سے معلوم کر لیتے ہیں یا لغت وغیرہ سے رجوع کرتے ہیں۔ غیر ملکی ناموں کے تلفظ کی ادائیگی سے قبل ان کا درست تلفظ معلوم کر لینا بھی ضروری ہے۔

• جسمانی زبان Body Languages

جسم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو براہ راست یا با لواسطہ اپنی بات کہتی ہے۔ مثال کے طور پر تکلیف پہنچانے والی خبروں کو مسکرا کرنا پڑھیں اور مجرم یا متاثرہ شخص پر غلطی سے بھی طنز یا انداز نہ ظاہر کریں۔ اینکر گم کے وقت پورا جسم محتاط اور چیزہ تازگی اور بثاشت سے بھر پور ہونا چاہیے۔

